

## چھٹی ورلڈ آرکیالوجیکل کانگریس میں خوش آمدید!

آرگنائزنگ کمیٹی آپ کو آئر لینڈ میں 29 جون تا 4 جولائی 2008 تک ہونے والی WAC-6 میں خوش آمدید کہنے کیلئے منتظر ہے۔ اکیڈمک پروگرام کی مرکزی جگہ یونیورسٹی کالج ڈبلن کا کیمپس ہوگا، جو کہ ڈبلن سٹی سنٹر کے قریب جنوب کی سمت میں واقع ہے۔ جیسا کہ آپ ہماری ویب سائٹ (<http://www.ucd.ie/wac-6>) پر دیکھ سکیں گے کہ اس میں تھیمز اور سیشنوں کے رنگا رنگ پروگرام شامل کیے گئے ہیں جن میں شرکاء حصہ لے سکتے ہیں۔ پیپرز اور پوسٹرز کے جمع کروانے کی آخری تاریخ، 22 فروری 2008 ہے۔ برائے مہربانی ویب سائٹ کے 'submit proposals' والے الیکٹرانک صفحے کو استعمال کرتے ہوئے اپنے پیپرز یا پوسٹرز جمع کروائیں۔ پروپوزلز جلد از جلد جمع کروانے کیلئے ہم شرکاء کی بڑی حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔

کانگریس کی رجسٹریشن کی فیسیں ویب سائٹ پر درج کی گئی ہیں۔ ہم ان شرکاء کی جو پہلے سے ورلڈ آرکیالوجیکل کانگریس (WAC) کے ممبر نہیں ہیں، ممبر شپ حاصل کرنے کی پرزور حوصلہ افزائی کریں گے کیونکہ اس کے اپنے ممبران کیلئے WAC-6 کی رجسٹریشن فیس خاصی کم ہے۔ آپ اس لنک کے ذریعے آن لائن، اس کے ممبر بن سکتے ہیں۔ <http://worldarchaeologicalcongress.org/site/join.php>۔ ممکنہ حد تک میٹنگز کی رسائی پوری

دنیا تک ممکن بنانے کیلئے، جو کہ WAC کے مقصد کے عین مطابق ہے، ہم بڑی خوشی کے ساتھ رجسٹریشن اور رہائش کے حصول کیلئے مفت مدد فراہم کرنے کی پیشکش کرتے ہیں، علاوہ ازیں ہم ترقی پزیر اور محروم ملکوں و معاشروں کے باسیوں کو سفری مدد کی بھی بخوشی مدد کی پیشکش کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم ترقی پزیر اور پسماندہ ملکوں و معاشروں کے باسیوں کیلئے سفری سپورٹ کی بھی پیشکش کرتے ہیں۔ برائے مہربانی WAC-6 کی ویب سائٹ کے گرانٹ پیج پر ٹریول سپورٹ فارم ملاحظہ فرمائیے، اس لنک پر: <http://www.ucd.ie/wac-6>

کانگریس کے دوران کی طرح کی نمائشیں اور ڈیمانڈسٹریشنز ہوں گی، بشمول *Abhar agus Meon*، میٹریبلز اینڈ منٹیلٹیز، آرٹ اور آرکیالوجی کے درمیان تعلق کو جاننے کے حوالے سے ایک بڑی نمائش کے۔ شرکاء کو آئر لینڈ کے آثار قدیمہ کے ضخیم ورثہ سے لطف اندوز ہونے کا موقع فراہم کرنے کیلئے بدھ 2 جولائی کو مختلف طرح کے مڈ-کانگریس ٹورز ہوں گے اور خوابش مند شرکاء کیلئے تین پوسٹ-کانگریس آرکیالوجیکل ٹورز دستیاب ہوں گے۔ علاوہ ازیں یہ کانگریس تمام شرکاء کے لطف اندوز ہونے کیلئے ایک بھر پور سوشل پروگرام بھی ترتیب دے گی۔

اکیڈمک پروگرام کے متعلق معلومات کیلئے برائے مہربانی ای میل کریں: [wac6programme@ucd.ie](mailto:wac6programme@ucd.ie)۔ رجسٹریشن، رہائش اور آنرش ویزا کی معلومات کیلئے، رابطہ کریں: [wac6@ucd.ie](mailto:wac6@ucd.ie)

ہم آپ سے ڈبلن میں ملاقات کرنے کے منتظر ہیں!  
، اکیڈمک سیکٹری، اگیبریل کونے WAC-6 کی آرگنائزنگ کمیٹی کی اہمہ پر۔

### اہم تاریخیں

پیپرز / پوسٹرز جمع کروانے کی آخری تاریخ: 22 فروری 2008  
منظور شدہ پیپرز / پوسٹرز کی حتمی تصدیق: 14 مارچ 2008  
( ایسے شرکاء جن کو مالی امداد کے حصول کیلئے پروپوزلز کی تصدیق جلدی درکار ہو وہ رابطہ کریں: [wac6programme@ucd.ie](mailto:wac6programme@ucd.ie) )

ابتدائی رجسٹریشن کی آخری تاریخ: 26 مارچ 2008 سے پہلے  
لیٹ رجسٹریشن کی آخری تاریخ: 26 مارچ 2008 کے بعد  
تمام منتظمین اور سیکرٹریز کیلئے آخری تاریخ برائے رجسٹریشن: یکم مئی 2008